



شوكات رهانوي

بـ قـاعـهـ

فـ دـلـهـ

www.taemeernews.com

شاعر

بـشـاعـر

نیتائج آفس پوسٹ کسیں ۱۶۳۹ دہلی

بیوی:- کوہ نور پر بیس لال کھواں دھے

قاعدۃ العاد

شکست گھانی

نیمت :- دُور و پے

ابتدائیہ ، ۹

عرض مصنف، ۱۱

۱۹	امتیاز علی تاج
۲۳	میاں بشیر احمد
۲۵	احمد شاہ نظر سنجاری
۲۹	صوفی علام مصطفیٰ عبّاس
۳۳	میرراجی شناوال الشر
۳۵	جوش لمح آبادی
۳۹	عبد الرحمن چفتانی
۴۳	حافظہ شیار پوری
۴۶	خند بکہ سترز
۵۱	خواجہ دل محمد
۵۳	ذوالفقار بخاری
۵۶	رشید احمد صدیقی
۵۹	زہرہ نگاہ
۶۱	سعادت حسن منزو

٤٥	شوكت تھانوی
٤٩	صالح الدین احمد
٧٣	ضیا جalandھری
٧٥	محمد طفیل
٧٦	ظفر علی خاں
٨١	مولوی عبدالحق
٨٥	غلام عباس
٨٦	فراق گورکھپوری
٩١	احمد نیم قاسمی
٩٥	کرشن چندر
٩٩	ل۔ احمد
۱۰۱	محنوں گورکھپوری
۱۰۳	ن۔ م راشد
۱۰۶	ڈفار عظیم
۱۱۱	ہاجہ ستر در
۱۱۵	حکیم یوسف حسن
۱۱۶	میرزا یاس بیگانہ

اُن بچوں کے نام

جو بھر سے پڑے پیدا ہو چکے ہیں

ابتدائیہ

اس بے قاعدہ کو اپنی طرف سے بڑے قاعدے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود چند اسیاق بے قاعدہ ہو گئے۔
 یہ قاعدہ آج سے کمی برس پہلے لکھا گیا تھا۔ اس وقت حروف کی زد میں آنے والے تمام ادبیں زندہ تھے۔ آج جب یہ قاعدہ چھپ کر بازار میں آ رہا ہے، تو ان میں سے منٹو بولا ناظر علی خاں۔ پطرس اور یگانہ لفظ کو پیا رہے ہو کر بھی زندہ ہیں میراجی کو بھی غفوری سی رعایت کیا تھا زندوں میں شمار کر لیجئے شوکت تھانوی صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس قاعدے میں صرف زندہ ادیبوں کا ذکر آئے گا۔ مگر وہ اپنی کوشش میں پورے کامیاب نہیں ہوئے

ان میں بعض زندہ ادیب مرے ہوئے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر راقم الحروف اور اس کے ساتھ دغیرہ دغیرہ۔

اس قاعدہ میں واقعات کی غلطی بھی لکھ کر گی۔ اس میں صنف کا کوئی تصور نہیں جب دنیا ہی کے حالات ہر لحظہ بدلتے ہوں تو اپنے قلم کے حالات جوں کے توں کیسے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ادیب آج سے پہلے باکار تھا۔ آج بے کار ہو چکا ہے یا جو آج باکار ہے وہ پہلے بے کار تھا۔ چھ کے شش بدلے اور منصب بھی، جیسے غلام مصطفیٰ تسمم آج سے پہلے گورنمنٹ کالج میں اردو پڑھاتے تھے۔ آج خود فکر معاش کا درس لے رہے ہیں۔ پطرس بے پہنچ پاکستان کے پو۔ این۔ او بیس سماں مدد تھے۔ آج وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کا درجہ کرنے آتے ہیں۔ ایسے تمام تغیر و تبدل کے باوجود اس قاعدہ کی ہمہ گیری اور افادیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

یہ قاعدہ پختہ عمر کے بچوں کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے شور بالغ ہوگا۔

محمد طفیل

عرضِ مصنف

یہ ادبی "قاعدہ" بے ادبی معاف، لا کہ بے قاعدہ ہی مگر وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے "حسب حال" ضرور ہے۔ زمانہ بدل کر کچھ کا پچھہ ہو چکا ہے، مگر ہماری تعلیم کا سنگ بنیاد یعنی ہمارا قاعدہ آج بھی درست ہے جو ہمارے آباد اجداد کے زمانے میں تھا۔ حالانکہ وہ زمانہ دوسرا تھا۔ اس وقت پڑھنا زیادہ ضروری تھا اور آج پڑھنا اتنا ضروری نہیں جتنا لکھنا ضروری ہے۔ یہ بے شمار ادبی رسالے اور ان رسالوں میں لکھنے والوں کا مذہبی دل اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادب کا پیٹھ صرف علم سے نہیں بلکہ جبل سے بھی بھرا جاسکتا ہے، اور ہمارا موجودہ ادب جو آج خدا کے فضل و کرم سے اس قدر فردغ پر ہے کام کے

لئے بستھ کنٹرول کی صورت میں پیپر کنٹرول کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔
 یقیناً سکسک کر دم توڑ دیتا اگر قید صرف یہ ہوتی کہ صرف پڑھے
 ہوئے لوگ لکھیں تو نہ اس قسم کے لوگ ملتے، نہ رسالوں کا پیٹ بھرتا اور نہ
 یہ رسالے ہماۓے ادب میں چل پیل پیدا کرتے۔ وہ تو کہیے کہ خدا کا کرنا کچھ ایسا
 ہوا کہ ادیب اور شاعر بخش کے لئے صرف تلمیذ الرحمن ہونا کافی سمجھا گیا اور ہر
 خدا کے بندے کو یہ پیدائشی حق حاصل رہا کہ ہ خواہ کچھ اور بن سکے یا نہ بن سکے
 مگر شاعر اور ادیب توجہ چاہے بن سکتا ہے۔ نہ اس کے لئے کسی سند کی ضرورت
 ہے نہ کسی لائنس کی۔ غالباً ہر ہی وجہ ہے کہ ہماۓے فنونِ لطیفہ میں سے ہمارا ادب
 جس قدر لطیفہ بناتے ہے اور کوئی فن اس سیلاہی کیفیت میں بتلانہ ہوا خیر
 کچھ بھی ہو گر اس کی بدولت اردو زندہ ضرور ہی خواہ درگور رہ کر زندہ رہی ہو۔
 تجربہ سے ثابت یہ ہوا ہے کہ اردو کو اگر داقعی آئندہ بھی زندہ رکھنا ہے
 تو اسی قسم کی زبردستی کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم صحیح قسم کے پڑھے
 لکھے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں۔ کسی زبان اور کسی ادب میں اتنے پڑھے لکھے
 لوگ مکن ہی نہیں جتنے اردو کو یا یوں کہیے کہ اردو کے ادبی رسالوں کو درکار نہیں۔
 تجربہ یہ کہ ہم کو پڑھے نہیں بلکہ صرف لکھے ہوئے لوگوں پر قناعت کرنا پڑیگی
 اور ہر ہمارے ادیب، ہماۓے شاعر، ہماۓے ادب کے علمبردار اور ہماری زبان
 کے سر برست بن کر اردو کو مار کر زندہ رکھیں گے یعنی اردو کو مر نے کی بھی اچانت نہ ہوگی۔

www.tameernews.com

آپ حیران نہ ہوں اور صرف "لکھے لوگ" کی نزکی ب سے اتنے اجنبی بننے کی کوشش نہ کیجئے۔ یہ آپ کے ادب اور آپ کی شاعری کے محض ہیں جو اس وقت کام آئے۔ جب آپ کی اردو، یہ بے ماں کی بچی موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ ایک ہندب اور مخدن خاتون کے مرنے کے بعد اس کی بچی کو ایک آنکے پر درکردہ یا جاتا ہے اور یہ احتیاطیں سلمنے نہیں ہوتیں کہ انہوں نے کیا ہے، خواہ وہ گھنوار ہو۔ پست اقوام میں سے ہو۔ بد صورت اور گھناؤنی ہو مگر چونکہ اسی کا دودھ پی کر یہ بچی زندہ رہ سکتی ہے لہذا وہ اسی کے پر درکردی جاتی ہے۔ اردو بھی ایک ایسی ہی بچی ہے، اس کی والدہ کا انتقال پر مال ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی آناکی گود میں پل رہی ہے۔ اردو کی یہ آناہی پڑھے لوگ ہیں جو جلدی میں تھوڑا بہت پڑھ کر اب اطیبان سے بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم کیا لکھ رہے ہو۔ اور کیوں لکھ رہے ہو؟

قصہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے نہای پڑھے لوگ" اول تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پردوتی ہے اور جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں تو انکی بلا کو کیا غرض پڑھی ہے کہ وہ اردو کی خدمت کریں اور اس اردو کی جو خود اپنے وطن میں ہماجرانہ زندگی بسر کر رہی ہے، وہ زندہ زبانوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ماوری زبان کو گھر کی

www.taemeernews.com
کھیتی سمجھ کر اجر ٹنے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اردو کو اپنا محسن ان ہی کو سمجھنا پڑے گا۔ جو ”پڑھے کھے“ نہیں بلکہ صرف ”لکھے لوگ“ ہیں۔

”لکھے لوگ“ دراصل پیدائشی ادیب اور شاعر ہوتے ہیں اور ان کا سہارا صرف یہ مقولہ ہے کہ ادیب یا شاعر بتا نہیں بلکہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اس سے تو یقیناً انکار نہیں کر سکتے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں اور چونکہ یہ پیدا ہو چکے ہیں لہذا ان کے کیلئے یہ ناممکن ہے کہ یہ ادیب کی خدمت نہ کریں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسی خدمت کے جوش میں مکتبوں سے بھل گئے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جو اسی دولے سے مجبور ہو کر تعلیم کی تکمیل کا انتظار نہ کر سکے۔ اور زیادہ تعداد ان بے گناہوں کی ہے جو ایکاںداری کے ساتھ ادا کی خدمت نہ کرنا چاہتے تھے بلکہ زندگی کیلئے کسی اور ہمارے کی تلاش میں تھے۔ ان بے چاروں نے دفتروں کے چکر لگانے سے مختلف تجارتی دھنے آزمائے۔ سچی اور سفارش کا کوئی امکان باقی نہ چھوڑا۔ ”ضرورت ہے“ کے اشتہار پڑھ کر اپنی عینکوں کے نمبر ٹھہائے اور پھر جب کچھ نہ بن سکے، تو ادیب اور شاعر بننا ہی پڑا۔ بے چاروں کو یہی ان کے بیس کا ایک وضندا تھا۔ جس میں وہ لگ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ شاعر یا ادیب بن گیا پھر وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ کہے تو کیا کرے؟ آپ خود ہی بتائیں کہ

اگر شاعروں کے پیٹ فارم اتنے مردیاں مرنے نہ ہوتے جتنے دہ نظر آتے ہیں تو
بیوے پیٹ فارم کے علاوہ یہ بھاپے اور کس پیٹ فارم پر پہنچ سکتے تھے۔
اتنی آسمانی سے کسی اور فن کا فنکار اس قدر نہیں اچھل سکتا جس قدر یہ شعر بنانے
والے "صنائع اچھل جاتے ہیں۔ ایسی سستی ثہرت اور کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔
ہلدی لگے نہ پھٹکی اور رنگ چوکھا آئے۔ یہ سمجھ ہے کہ بظاہر یہ مشغله ذریعہ
معاش نہیں مگر مشغل بیکاری تو ہے اور اگر قسمت ساتھ دے جائے تو روزی
کو جیلہ تو چاہیئے دشمن شاعری کا جیلہ بھی ہو سکتا ہے۔

ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ روز بروز طے ہوتا جا رہا ہے
کہ اس دور میں پڑھنا اتنا ضروری نہیں جتنا لکھنا ضروری ہے اور چونکہ کچھ نہ کچھ
لکھ سکنے کے لئے اردو کی ایک آدھ کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے لہذا ہمیں ضرورت
ہے اب ایسے قاعدے سے اور ایسی پہلی دوسری کتاب کی جو صرف اتنا پڑھا کے
کہ طالب علم میں لکھنا متوجہ کردے پھر تو الترمذی۔ ابلاؤغیرہ کی غلطیاں
لکھنے سے خود بخود یا تو رانج ہو جائیں گی ورنہ دور ہو جائیں گی۔ تذکرہ دنیا نہیں
کے جھگٹے یوں بھی مختلف فیہ ہیں اور مستقل طور پر فساد کی جڑاں طرح یا تو مستقل
مختلف فیہ ہو جائیں گے در نہ یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ آخر بغير تذکرہ
تذکرہ کے بھی اکثر زبانیں زندہ رہتی ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ کسی طرح
اردو زندہ رہے۔ اردو کے سلسلے میں بار بار ان خال صاحب کی مثال سامنے

آرہی ہے کہ خدا نے بڑھا پے میں ایک اولاد نزینہ عطا فرمائی تو اس نے ہوش
بینھا لئے ہی مزا شروع کیا حسینوں پر اور جب محلے والوں کی شکایتیں آنامشروع
ہو میں کہ خانصاحب آپ کے صاحبزادے بد معاشی پر اترے ہیں تو خدا کر دٹ
کر دٹ جنت نصیب کرے اس باپ کو بڑے خلوص سے کہا کہ صاحب میں تو
صرف اسکی زندگی چاہتا ہوں وہ بد معاش ہو کر ہی جی جائے تو بہت ہے۔
اردو کے متعلق بھی اس غور و فکر کا اب زمانہ نہیں رہا کہ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے
شکر دایجیئے اگر دہ زندہ ہی رہ جائے۔ اور دیکھ بھیجے گا اس کو اگر زندہ رکھیں
گے تو ہی کھو لوگ۔ ”یہی اردو کے رسائل کا سپیٹ بھرنے والے، یہی مشاعر دیں
میں اپنے تخلص لے کر شرکت کرنے والے یہی خود را دیوب اور یہی خود ساختہ شاعر
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادیب اور شاعر جتنے کیسے ہیں چون تو تفصیل کا
اجال تو صرف یہ ہے کہ بس بن جلتے ہیں، مگر یہ اجال شاید باعث تسلیم نہ ہو۔

شايد تری بمحض میں رو داد غم نہ آئے
ڈرتا ہوں آزموں کی تشریح مختصر سے

اس لئے تفصیل میں جانا ہی پڑے گا۔ سیاسی اعتبار سے نام آئی وقت جعل
سکتا ہے جب لیڈری کے درجہ تک پہنچتے ہیں آدمی خاصہ لندڈ رابن چکتا ہی
بیوی اسکی زندگی ہی میں اپنے کو بیوہ سمجھ کر صبر کر لیتی ہے۔ پچھے میم خانے میں داخل
ہو چکتے ہیں اور یہ حضرت ہر طرف سے بے نیاز ہو کر صرف پیاست کے نیاز مندی پر

رہ جاتے ہیں۔ آدمی زندگی جیل میں اور آدمی جیل کی تباہی میں سبکر کر پکتے ہیں۔ اسی طرح نامور طبیب، نامور پہلوان، نامور دیکیل اور ہر طرح کا نامزد ہونے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے بھی پڑتا ہے۔ صرف یہ آسانی منجانب ادب اور شعر کو حاصل ہے کہ ایک غزل پڑھ کر اور مشاعرے کے سامعین کو اپنی خوشحالی کے سے بیوقوف بنا کر ایک آدمی شاعر مشہور ہو سکتا ہے ایک مفہوم کو تبدیل کر کر اور مضمون کے ساتھ ایک تصویر پھپوا کر آدمی مفہوم نگار بن جاتا ہے۔ اس آسانی سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ کفران نعمت کے مواد اور کیا ہے۔

یادیں اور شاعر جب رساں لوں میں ادیبوں اور شاعر زل کو حضرت اور مولانا لکھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود بھی حضرت اور مولانا بننے کو جو چاہتا ہے۔ یادیں اور شاعر جب مشاعر دل میں دیکھتے ہیں کہ ایک واجہی سا آدمی اپنی پرگیا اور داد کے خزانے لوت لا یا تو ان کو بھی ایک تخلص و جستجو ہوتی ہے اور اگلے مشاعرے میں وہ بھی ایک تخلص لے کر شرکت کرتے ہیں اور داد پا کر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ اب تک لگنا میں میں پڑے رہے۔ ان ادیبوں اور شاعر دل کو ادیب اور شاعر بننے کا شوق ان ادیبوں اور شاعر دل کی شہرت سے کچھ اور بھی زیادہ ہوتا ہے جو بے شمار پا پڑھیں کہ اس شہرت کے مستحق ہوئے ہیں جپا نچ دہ ان کے چہربے آثارتے ہیں۔ ان کے نقش قدم ڈھونڈھتے ہیں اور ان ہی کے کستول سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسی قسم کے چند مشہور ادیب اور شاعر اس قاعدے میں جمع کر دیجئے گئے ہیں، تاکہ ان کے متعلق تازہ دار دان بساطِ ادب و شعر کو اپنادی معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ تازہ دار دلفت سے انڈا نہیں چاہتے، وہ تو امتیازِ علی تاج کی طرح انارکلی کے مھمنف کی جیشیت سے مشہور ہونا چاہتے ہیں لہذا ان کو دلفت سے امتیازِ علی تاج ہی کیوں نہ پڑھایا جائے تاکہ صرف یہ قاعدہ پڑھ کر وہ براہ راست امتیازِ علی تاج بننے کی کوشش شروع کر دیں۔ یعنی امتیازِ علی تاج اپنی کوشش سے امتیازِ علی تاج بنے ہیں تو وہ بغیر کسی کوشش کے امتیازِ علی تاج بن جائیں۔ یہ قاعدہ جس قدر بے قاعدہ ہے اسی قدر براہ راست ہے تعلیم کا مقصد جب تعلیم تھا وہ درگذر چکا۔ اب تعلیم کا مقصد وہ ہے جو اس قاعدے سے حاصل ہو گا۔ اس قاعدے میں جن ادیبوں اور شاعروں کا ذکر ہے ان کی شہرت کو نکتے دیکھنے والے بھی تو چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی ان ہی جیسے بن جائیں۔ چنانچہ اپنادی میں ان سے تعارف کر ادینا ضروری سمجھا گیا۔

اس قاعدے کو مکمل تعلیم منظور کرے یا نکرے گریہ قاعدہ منظور نظر ضروریں کر رہے گا۔ اس لئے کہ یہ بڑی مقصدی چیز ہے۔ مکمل تعلیم کا مقصد تو ملک سازی ہے یہ قاعدہ اردو کے محافظ، اردو کے میجا اور اردو کے دہ محسن پیدا کر لیکا جوار دو کو اگر مار بھی ڈالیں تو بھی ادب اردو کو زندہ رکھیں گے، انشاء اللہ۔

www.taemeernews.com



امیاز علیج

www.taemeernews.com



الف

امتیاز علی تاج

دیکھو کچو بایہ امتیاز علی تاج ہیں ۔

امتیاز علی ان کا نام ہے اور تاج تخلص۔ مگر شعر نہیں کہتے تاکہ تخلص خرچ نہ ہو جائے اور تخلص اس لئے رکھ پھوڑا ہے کہ دنیا کا کیا بھروسہ جلنے کب شعر کہنا پڑ جائے ۔

پہلے یہ ڈرائے پڑھتے تھے۔ پھر ڈرائے لکھنے لگے جب لاہور میں ریڈ یو ایجاد ہوا تو ڈرائے نانے لگے اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ لاہور میں فلم کپینیاں بھی اگنے لگیں تو تاج صاحب ڈرائے دکھانے بھی لگے۔ اب ڈرائے کھلانا اور ڈرانے پلانا باقی رہ گیا ہے مگر لاہور بھی ترقی کر رہے ہے اور سُنسنی بھی دہ دن بھی آہی جائیں گے۔

امتیاز علی تاج کو اپنے ابا جان سے پوچھو۔ نکن ہے وہ کبھی بچہ رہے

ہوں اور امتیاز ملی تاج کا خبراء پھول پڑھا رہا۔ پھول کا یہ خبار پڑھنے کے
بہت سے بچے والدین بن چکے ہیں۔ اور امتیاز ملی تاج کو جانتے ہیں۔ تم
کو جسی والدین جنہا ہے۔ اس لئے تم بھی ان کو یاد رکھو۔

{ امتیاز ملی تاج }

بے

بیشیر احمد (میاں)

بچوں اب بیشیر احمد لپنے کو میاں بیشیر احمد کہتے ہیں۔ اور دائیٰ بڑے میاں لوگ ہیں۔ میاں بیشیر احمد، بیوی بیشیر احمد اور بچے بیشیر احمد سب مذہبی خوشی زندگی بس رکرتے ہیں۔

یہ وہی میاں بیشیر احمد ہیں جن کا رسالہ "ہمایوں" تھا اسے ابا جان کے پاس آیا کرنا تھا اور جس کادی، پی تھاری اُتھی جان نے دالپس کر دیا تھا۔

جب تھارے ابا جان نے وہی، پی وصول نہ کرنے کی وجہ پر بھی تو تھاری اُتھی جان نے کہا کہ بچوں کو یہ شعر زبانی یاد ہو جو کہ ہے ہے

اٹھو دگر نہ حشر نہیں ہو گا پھر بھی
دودڑ دزمانہ چال قیامت کی حل گیا

اس لئے اب رسالے کی ضرورت نہیں رہی۔


بچوں یہ شعر میاں بیشیر احمد کے ابا جان کا ہے جن کا خلاص بھی وہی تھا

جوں سونا کا نکاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شعر میاں بشیر احمد کو اپنے اشعار کا باجان معلم ہوتا ہے۔ تم بھی اپنے باجان سے شعر کہلوایا کرو تاکہ تمہارے شعر یقین خانے میں داخل نہ ہوں۔

بچوں یہ میاں بشیر احمد بیٹھرہیں۔ لگے پہلے ایڈیٹری کرتے تھے پھر سفیر بن کر ترک چھکتے تھے بڑے آدمی ہیں، مگر جو ہٹ نظر آتے ہیں بچوں کی طرح ہستے ہیں اور بغیر منہ بات نہیں کہ سکتے۔ جب کبھی تم کو ان کے صاف دشمنانہ نظر آ جائیں کبھی یہاں کہ ہنس رہے ہیں۔ ایسے ہنس کہ بزرگ کو بخلا دا بنس جیسے یاد رکھنا۔


ب۔ بشیر احمد (میاں)


www.taemeernews.com



پطرس بخاری

www.taemeernews.com





پطرس

بچوایہی ہیں پطرس۔

ان کا نام سید احمد شاہ بخاری ہے۔ پطرس کے نام سے وہ اردو میں مضمون لکھا کرتے تھے جن کو پڑھ پڑھ کر تمہارے آبا جان اکیلے میں ہنسا کرتے تھے اور تمہاری اُتحی جان رو رو کر دعا میں مانگا کر قی تھیں کہ خدا تمہارے آبا جان کے دماغ کو ٹھکانے کرے۔ مگر جب تمہارے آبا جان نے وہ مضمون تمہاری اُتحی جان کو سنائے تو وہ بھی اپنادماغ ٹھکانے نہ رکھ سکیں۔

بچوایہ زندہ اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں۔ مگر مزاح نگاری نہیں کرتے تاکہ لوگ ترسیں اور اردو زبان خدا نخواستہ اتنی ترقی نہ کر جائے کہ انگریزی زبان بھی منہ دیکھتی رہ جائے جس کے وہ مانے پڑئے ادیب ہیں وہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں سے پانی بھرواتے ہیں۔

”پانی بھروانا“ ایک محاذ رہ ہے۔ مگر ڈرڈ نہیں یہ امتحان میں نہ آئے گا۔

اس لئے کہ تمہارے ممتحن کو خود اپنے ہم مطلب معلوم نہیں۔

پچھو بیٹرس کے مصاہین میں ہر سے ہر کو پڑھنا اور کوشش کرنا کرنے میں سہوں
 المصاہین کو پڑھ کر تمہیں اپنی زبان اور دوپہر سایہ بھی آئے گا اور فخر بھی ہو گا۔ مگر بیٹرس
پر غصہ آئے گا کہ اتنا کم کیوں لکھا۔ مگر پچھو بادہ بیجا سے مجبور تھے۔ پہلے وہ طالبوں
کو پڑھاتے ہے تاکہ وہ جاہل نہ رہیں۔ اگر تمہارے آباجان ان کے کامیج میں نہ
پڑھتے تو آج تم بھی ان کے ساتھ آ لو جھوٹے کا کاروبار کرنے پر مجبور ہو گتے۔

پچھو اس کل بیٹرس لیکس کس میں رہتے ہیں۔ جہاں اقوام متحده نے کشیر
کا اچارڈا لایا ہے۔ اقوام متحده کے اس مذاق کو سمجھنے کے لئے پاکستان کا سچے
بڑا مزار نگار دہان بھیجا گیا ہے اور جو کچھ خدا دکھارا ہے دیکھ رہا ہے جنم ان
باوں میں نہ پڑو، نہ معرف یا درکھو۔

ب۔ بیٹرس



تہم (دو)

www.taemeernews.com



تے

تہمت

بچو باتا دیکھ کون ہیں ؟

تہمت میں جن کو سب صوفی غلام مصطفیٰ تہمت کہتے ہیں۔ بچو تہمت مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور جب نہیں مسکراتے تو ان کو دیکھنے والے مسکرا دیتے ہیں۔ بچو چونکہ یہ تہمت ہیں لہذا کبھی قہقہہ نہیں لگاتے۔ زور کی ہنسی آجائے تو ہاتھ کے جھنکوں سے تھرا بیڑ کا پارہ اتارنے کے اندازے قہقہہ بلند نہیں کرتے بلکہ قہقہہ کا منہوم پورا کر دیتے ہیں یا نہقہ کو جھنک دیتے ہیں کہ بچو تہمت کے پاس کیوں آیا۔

بچو یہ کالج میں پرنسپر ہی اور طالب علموں سے سر کھلانے کے بعد بھی آناد مانع اپنے لئے بچائیتے ہیں کہ اکٹھی تین زبانوں کے شاعر ہیں۔ اردو، فارسی اور پنجابی تینوں زبانوں میں بہت عمدہ شعر کہتے ہیں اور تین زبانوں کا شاعر ہونے کے باوجود بہت اپنے آدمی ہیں۔ زندگی بھر صرف ایک شوق

رہا دوست بنانا اور پھر ان سے دوستی نہ جانا۔ اگر کوئی ان کا بھی ذہن ہے تو اس کو کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔

شاعری میں حقہ سے مشورہ فرازتے ہیں جنہوں نے ملے تو تمہم بھی جائز سمجھتے ہیں۔ پان کے بھی ثوقيں ہیں اور چند پاسليقہ پان کھانے والوں میں سے ایک ہیں۔

بیکو بایہ تبسم صاحب بیٹھے بیٹھے کھو جایا کرتے ہیں۔ جا گئے جا گئے سو جایا کرتے ہیں مگر اس سے کچھ اور نہ سمجھنا یہ صرف محبت ہوتی ہے۔ آخر بھاکے کیا کریں ایک انار اور سو بیمار والاصحون ہے۔ یعنی زبانوں کی شاعری ان کی بیماری کا لمح کے طالب علم ان کے بیمار بہسل کرنے والے ان کے بیکی، نہ بال اور کرکٹ کھیلنے والے ان کے بیمار پیری کی سکھنے والے ان کے بیمار پلپیشران کے بیمار، ریڈیو ان کا بیمار اور یہ خود سب کو خوش رکھنے کی بیماری میں بنتا اور اسی میں مگر۔

بیکو بایہ مرجاں مرجاں مر جاں مر جاں لگ پیدا ہونا بند ہو گے۔ اس لئے اس آخری مرجاں مرجاں ان سان کو یاد رکھنا۔

ت. تبسم

ش

ثنا اللہ (میراجی)

پچھو! یہ ثنا و المثلین کریمہ رحمتے اور میراجی بن کر دے۔ اب ان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب یہ زندگی توان کے درست ان کے مرنے کی دعا میں مانگا کرنے تھے، اس نے اپنے دل میں کوئی شخص بغیرے قابل قدر نہیں بن سکتا۔ آج تک یہ میراجی میزبانی جاتا ہے۔ اور جب میراجی ایک خیراتی اسپتال میں مر ہے تو اس وقت ان کے ٹھنڈے میں پانی پیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب ان کو خواہ جب بھی ہیں۔ اگر دو زندہ ہو جائیں تو ہی سب ان کو پھر زندگی میں لے لے کر ان کے بھی خواہ پیچھو! یہاں پہنچنے کے انتہا زہین آدمی تھے کہ ذہانت کو بعض لوگ جزوں تک سمجھتے تھے۔ بعض لوگ اس سمجھو کو باہمی سمجھتے تھے اور بعض سمجھدی کر خود میراجی بذات خود اسی مغالطے کا دوسرا نام تھے۔ یہ بہت بڑے دستکاریوں کی دلخواہ تھے جو اپنے کو لوٹنے کا شوق دے کر چلے تھے اور جو اپنی دن کا کریم ہے۔

بچو ان کے ہاتھ میں تین لوہے کے گولے دیکھا تو مگر یہ نہ پوچھنا کہ یہ
کیا ہے۔ وہ خود بھی ان گلولوں کو اس طرح لئے چھرتے تھے کہ عزم
کوئی پوچھے کر یہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے
ان کے گھنے کی موئی موئی مالائیں اور ان کے لمبے لمبے بال ان کو شی خاہ
کرتے تھے جو لوگ ان کو دیکھے چکے ہیں وہ اگر آج بھی ان کا تصدر کرتے ہیں تو
مالے جسم میں چونٹیاں سی ریت گئے لیکن ہمیں اور وہ ذہن میں ایک کھنکھو رابن کو کلبلا
ہوتے ہیں۔ لہذا بچو ان کو فصو اپنے ذہن میں نہ لاء۔ صرف ان کا کلام پڑھو۔ اگر
یہ کلام تجوید میں آجھا تھے تو دیاغ کو علاج کراؤ اور اگر نہ تجوید کو تو اس دیاغ کی غدر کرو
یہ نظر د کسی دن تمہارے کام آئے گا۔

مگر بچو بحیثیتِ مذعوقی میرجاہی کو تمہارا ادب اور تمہارا خاص بھلانہیں ساختا
وہ زندگی بھرا لوگی کوہ پنے سے نفرت پیدا کرنے تھے مگر جب وہ مر گئے تو ان سے
نفرت کرنے والوں نے ان کی محبت میں مزماش روایت کر دیا۔ یہی تھا اس جادوگر
بوب دوا در اس رثی کا سراپ۔

بچو! تم اس ادیب اس شاعر، اس آدمی کو سمجھنے کی کوشش کر د جو ہمای
تکمیل نہیں آیا ہے۔

ثنا وال اللہ (میرجاہی)

ج
بُشْرَى مُلْحَبِي

www.taemeernews.com



جوش ملیح آبادی

دیکھو کچھ بای جوش ملیح آبادی ہیں جو اپنی زندگی ہی میں استثنے پڑے شاعر بن گئے
اور بن ہی نہیں گئے ہیں بلکہ ماں بھی لئے گئے ہیں۔ شاعر تو جو کون بنتا ہے وہ
اپنے نزد دیکھ بڑا ہی بنتا ہے۔ مگر ہم کسی شاعر کو اس وقت تک بڑا نہیں مانتے
جب تک اُس سے مارڈ لیں۔

پچھا بایا در رکھو کہ ہم اپنے فنکاروں کو پہلے مارڈا لتتے ہیں پھر ان کو پوچھتے ہیں
اور ان کی بڑائی ان کے جیتنے جی تسلیم نہیں کرتے۔ مگر جوش ملیح آبادی کو ان کی
زندگی ہی ہیں ہم نے بڑا شاعر ان لیا ہے۔ لہذا اب ان کو مر نے کی ضرورت نہیں۔
آڑ دعا کریں کہ وہ زندہ رہیں۔

پچھا بایا ملیح آبادی کے اس پھان اور ہندو پاکستان کے اس شاعر کی شاعری
کے تینوں بھی پھانوں بھی ہیں۔ یہ پھان شاعر خدا سے بھی اکٹتا ہے۔ اسی لئے اب
قضا و قدر نے احتیاط مشرد ع کر دی ہے کہ اگر کسی کو پھان بنادیا ہے تو اُسے

شاعرنہ بنایا جائے۔
www.taemeernews.com


پھو بجوش ملیح آبادی وہ پرانے شاعر ہیں جن کو نیا بھی سمجھا جاتا ہے، ان کی شاعری میں بھوک کا اور ان کی زندگی میں پایس کا اظہار نمایاں ہے ہندستان کی جنگ آزادی میں جوش نے بھی بڑا حصرت مددانہ حصہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز حکومت ان کو خان بہادر نہ بناسکی۔ اور اب بھارت سرکار نے ہمارے اپھنے خاصے شاعر کو پدم بھوشن بنانکر رکھ دیا ہے۔ تم پدم بھوشن پر غور نہ کر دیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ صرف یاد کرو۔

ج۔ جوش ملیح آبادی



چنانچہ (عبد الرحمن)

www.taemeernews.com



چ

چعتائی (عبد الرحمن)

وکیجو بچو ای چعتائی ہیں۔

ان کا پورا نام ہے عبد الرحمن چعتائی۔

بچو ایہ مصاعر ہیں۔ "مصاعر" کے معنی نہ اپنے استاد سے پوچھنا نہ لپنے ابا جان سے۔ درست سب جاہل ثابت ہوں گے۔ "مصاعر" اس تصویر کہتے ہیں جو اپنی تصویروں کے ذریعہ شاعری کرتے۔ بچو ایہ چعتائی اپنی تصویروں کے ذریعے شاعری کرتے ہیں۔ ان کا شعر الفاظ میں نہیں خطوط میں ادا ہوتا ہے اور وہ بھی عام فہم شعر نہیں غالب کا شعر۔

بچو! ان چعتائی صاحب نے مرقع چعتائی کے نام سے غالب کا کلام تصویروں میں پھایا ہے اور جب سے غالب کا کلام ان تصویروں میں چھپا ہے اور بھی شکل ہو گیا ہے۔ غالب کے کلام کی تدوگوں نے شرح لکھ دی تھی مگر ان تصویروں کی شرح کرنے کچھے۔

پچھوں خدا کا شکر ادا کرو کہ اتنا بڑا مصہور نہماں کے لامب میں اس نے پیکیا

رب کا شکر ادا کر بھائی !

جس نے بنایا ہے چلتائی !

گراس سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کرد کہ چلتائی خدا نہ بن سکے اور نہ ہم تم سب اسی شکل و سہوت کے ہوتے جیسی چلتائی کی تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا تو بہت زنگیں ہوتی ہم تم سب ایسے ہوتے کہ گدی تک ہماری ہانگیں ہوتیں جھونوں تک ہاتھ ہوتے اور ہاتھ سے کچھ چھوٹی انگلیاں۔ اور انگلیوں سے کچھ تی چھوٹے ناخن۔ انگلوں کی جگہ ایک شکاف نظر آتا الیتہ ناک ایسی ضرور ہوتی جس سے ہم ایک دوسرے کو سوچھ سکتے۔

پچھوں ان چلتائی صاحب کی تصویریں جس قدر پر کارہ ہوتی ہیں یہ خود اسی قدر سادہ ہیں۔ سمجھو میں نہیں آتا کہ اتنی اتنی موٹی انگلیوں میں یہ خطوط بنانے کی کچک کیسے آجائی ہے۔

پچھوں تم چلتائی کی تصویریں دیکھو اور یاد رکھو۔

تج چلتائی (عبد الرحمن)



جفیط، ہوشیار پوری

www.taemeernews.com



۲

حفیظ۔ ہوشیار پوری

بچو! یہ حفیظ ہیں۔ جانندھری نہیں۔ ہوشیار پوری
 حفیظ جانندھری کا سین تعلیم بالغاء والے قائد ہیں اُنکے لگا۔ — تم
 حفیظ ہوشیار پوری کا سین پڑھو۔

بچو! یہ زہری حفیظ ہیں جن کی غزیلیں تمہانے آبا جان بہت بہت جھوہم کر
 پڑھا کرتے ہیں اور جن کے متعلق ایک دن وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے
 کہ کون کہتا ہے کہ اردو غزل کوئی مرگی۔

بچو! یہ حفیظ ہوشیار پوری اردو کی زندہ شاعری کے بہت بڑے غزل گو
 شاعر ہیں اور یہ ان چند شاعروں میں سے ایک ہیں جو شاعروں میں سما کر غزل نہیں
 پڑھتے پھر بھی سننے والے مذاق نہیں اڑاتے بلکہ عزت اور قدر سے ان کا کلام
 سنتے ہیں اور رسالوں میں ان کا کلام ڈھونڈھتے ہیں۔

ہمکے آبا جان نے تھیک کہا تھا کہ اردو غزل مری نہیں، اس لئے کہ اُن

تو حفیظ کی غزلوں میں زندگی اور تازگی ہے۔ دوسرے اگر غزل مر جاتی تو حفیظ بائیخ
وفات نظم کر سکے ہوتے۔

پھر اب حفیظا ہو شیار پوری کو تاریخ نکالنے میں بڑا ملکہ ہے وہ بات بات
پر جوستہ تاریخ نکال دیتے ہیں اور ایسی کہ واقعی الہام معلوم ہو۔

ایسا اچھا غزل گو، ایسا اچھا تاریخ نکالنے والا شاعر کیسے بن گیا ہے یہ بات
ذہم صحیح ہے میں نہ تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ حفیظ کا کلام پڑھو اور دعا کرو کہ وہ تمہاری
تاریخ نہ نکال دیں۔ ان کو یاد رکھو۔ اگر بھولے تو وہ ضرور تمہاری تاریخ نکال دیں گے۔

ح - حفیظ ہو شیار پوری

خ

خیبرستان

www.taemeernews.com



خ

خدیجہ مسٹرور

بچو! ان کو دیکھو۔ یہ خدیجہ مسٹرور ہیں۔

پہلے ان کی صحت کے لئے دعا کر۔ بچوں کی دعا خدا جلد سنتا ہے۔
بچو! یہ دبی خدیجہ مسٹرور ہیں جن کی کہانیاں تمہارے آبا جان اس وقت
بھی پڑھتے ہیں جب چلوئے میں مکھی پڑ جانے کا اندریشہ ہوتا ہے اور ان کے
افسانے تمہاری اماں جان اس وقت بھی پڑھتی ہیں جب چلوئے پہچڑھی ہوتی
ہانڈی جل رہی ہوتی ہے۔

بچوں ان کی کہانیوں میں نافیون ہوتی ہے۔ نہ تمہارے آبا جان خدا جو اس
افیون کے سیاہیں، مگر اٹھت اتنا ہوتا ہے کہ شریخ کرنے کے بعد جب تک
ختم نہ ہو باقی سب پکھتم کرنا پڑتا ہے۔

یہ کہانیاں اسی زبان میں لکھتی ہیں جس زبان یہ ہماسے تھاتے گو دل
میں لئے دن کہانیاں ذاتی ہوتی رہتی ہیں۔ مگر لکھنے نہیں جاتیں۔ ان کی گھر بڑی زبان

میں چونکہ ادب ہے لہذا ادبی زبان میں گھریلوں نے پایا جاتا ہے۔

بیجوں اتمم ہی کہانی لکھنا سمجھو۔ مگر خبردار خدیجہ مستور کی نقل نہ اتنا رہا۔

خدیجہ مستور نے کسی کی نقل نہیں آتی ہی بلکہ اپنے لئے خود ایک راستہ نکالا ہے۔ اپنا انداز خود ڈھانا رہے، اپنا اسلوب خود پیر کیا ہے۔ ان کا اسلوب ان کی سگی ہیں اجرہ مسرور کے اسلوب کا سگا بھائی معلوم ہوتا ہے اور اس۔

بیجوں باجرہ مسرور کا ذکر بعد میں پڑھنا فی الحال خدیجہ مستور کی تصور پر بیجوں کے ان دھان پان غائب نے کسی بھاری بھرم کہانیاں لکھی ہیں۔ اور پھر پاور کھو۔

خ - خدیجہ مستور

دل

دل محمد (خواجہ)

بچو! دل محمد روڈ کو توجھ نتے ہونا۔ یہ وہی خواجہ دل محمد ہیں۔ روڈ ان کا تخلص نہ سمجھ لینا۔ یہ تو ان کے نام کی سڑک ہے۔

بچو! ان دل محمد صاحب کو ضرور یاد رکھوں گے کہ یہ ریاضی کے ماہر بھی ہیں اور شاعر بھی۔ پچھن میں جو طالب علم ان کی حساب کی کتابیں پڑھتے ہیں جو ان ہو کر انہی کو ان کا کلام علی الحساب سنبھال پڑتا ہے۔

یہ پڑے کہنہ مشق شاعر ہیں۔ جب تمہارے آبا جان جیو میٹری پڑھا کرتے تھے اس وقت تمہارے دادا جان مرحوم ان کا کلام مشاعر دیں سن کرتے تھے۔ بچو! دعا کرو جب تمہارے پتے ان کی جیو میٹری پڑھیں اس وقت تم ان کا کلام مشاعر دیں سنزو۔

بچو! خواجہ دل محمد کے کلام سے اس طرح بیگانہ وارندگز روڈ جس طرح لوگ دل محمد روڈ سے گزر جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی بنائی ہوئی متعدد راہیں

تھا کے سامنے ہیں۔ ایک دہ جوان کی شاعری نے بنائی۔ دوسری دہ جوان کو
ریاضی نے سمجھائی۔ اور تیسرا دل محمد روڈ۔ لہذا ان کو یاد رکھو۔

۲ - دل محمد خواجہ

www.taemeernews.com



ذوق
الفخارجی

www.taemeernews.com



ڈال

ذو الفقار بخاری

پچھا ان کو جانتے ہو؟ یہ ہیں سید ذو الفقار علی بخاری۔ لوگ انہیں چھوٹے بخاری کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ٹبے بخاری ان کے بٹے بھائی سید احمد شاہ بخاری ہیں جو لپڑ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔

پچھا ان بخاری صاحب کو کسی نکسی رنگ میں جانتے ضرور ہو گے۔ بمیشی کے بھے خاں یا کراچی کے جمعہ خاں جمعہ یار ڈیلو پاکستان کے ڈائیکر ڈجزٹ بخاری۔ اگر اب بھی نہ پہچانے ہو تو استاد سے پوچھو۔ استاد کو معلوم نہ ہو تو استاد بدل دو درستہ جاہل رہ جاؤ گے۔

پچھا یہ بخاری صاحب ان چند ذہینیوں میں سے ایک ہیں جن کو ہر فن ہوا کہا جاسکتا ہے۔ ذہین آدمی کی ہربات میں اتیج ہوتی ہے اور بخاری اپنی ہر اپنی سے مقدم اپنی انفرادیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ بڑا ڈکا سٹر، میں اور ایسے کہایکرو فون کو دیکھ کر ان کی حالت اس پہلوان کی سی ہو جاتی ہے جو اکھاڑے کی ٹھیک

پھونا شروع کرتا ہے۔ وہ اداکار ہیں اور ایسے کہ ہمارا کائیچہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے فنکار کائیچہ پر آجئیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی سماں کیفیت رکھتے ہیں وہ ایک حلیقی بھرتی دنیا ہیں۔ ایک طوفانی دنیا سعی و عمل کا ایک نتھکنے والا حشر محترم۔

بچو! تم ان کو مشاعرے میں دکھو تو صرف ان ہی کا شعر تم کو یاد رہ جائے ریڈیو پر انہا پاڑ کے سنو تو اسی پاڑ کی نقل کرو۔ ان کے لطیفے سنو تو ان کو اپنا بہترین درست بنانے کی تمنا کرو۔

بچو! بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری بننے بہت ہیں، مگر بن وہی سکتا ہے جس کو بگڑانا نہ آتا ہو۔ جو کچھ نہیں بن سکتے وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری بننے ہیں یہ بات تمہارہ کہنا اس لئے کہ تم اچھے بچے ہو۔ اچھے بچے حاصل نہیں محسود ہوتے ہیں۔ بچو! تم بخاری بننے کی کوشش کرو اور یاد رکھو۔

ذ - ذللقوار بخاری

لے

رشید صدیقی

یہ اردو کے بہت بڑے طنز نگار اور طنز نگاری پر خود ایک بہت بڑا طنز۔ اپنی تکالیف کا قدرت سے صرف ہی انتقام لے سکتے ہیں کہ زندگی سراپا کرب بن کر رہ گئی ہے تو یہ اس کرب سے بھی انبساط پھوڑ کر فاستخانہ ہنسی ہنستے ہیں اور دنیا کو ہملا تے ہیں۔ کس کو تھیں آسکتا ہے کہ جس کا ادب روح میں ایک سدا بہار شکفتگی پیدا کر دیتا ہے وہ خود ایک قد آدم زخم بن کر رہ گیا ہے۔ زندہ دلی تو در کنار زندگی ہی کے لائے ہمیشہ بڑے رہے مگر اس مرض کا صحبت منداوب اپنی شکفتگی کے اس معیار سے کبھی بیچے نہ آسکا جو اس مرض کی بھولی بسری صحبت نے کبھی قائم کیا تھا۔

درد کی ٹیس پر سکرا کر دوسروں کو ہنسانے والا کس دل گردے کا انسان ہو سکتا ہے، اب اس کا اندازہ کرنا ہوتا رہ شید احمد صدیقی کا ادب خواہ نہ پڑھو خود رشید احمد صدیقی کو ضرور پڑھ لو اور ان کی صحبت کے لئے دعا کرو۔

بچو! ہم کو ہنسانے والے خدا کی رحمت ہیں۔ لہذا خدا سے کہو کان
پر بھی رحمت نازل کرے۔

بچو! یاد رکھو۔

ڈ۔ شید احمد صدیقی

نے

زہرہ نگاہ

ابھی پچھلے دن پہلے یہ خود بھی تھیں بلکہ اب بھی بچپن ان کے آس پاس ہی نظر آتا ہے۔

بچو! یہ وہی زہرہ نگاہ ہیں جن کا کلام ایک مشاعرے میں تہاری اماں جان نے سن کر خود بھی شعر کہنے کی کوشش کی تھی۔ مگر تمہارے ابا جان ان کا کلام سن کر ہنس دیئے تھے اور پھر ان کو سمجھدی گی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بہن کا روگ نہیں ہے۔ اور ترجمہ کی کوشش تو ہرگز نہ کرنا ایسا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔

بچو! ازہرہ نگاہ پہلا ہی مشاعرہ پڑھ کر مشہور ہو گئیں۔ ان کا کلام بہت اپھا ہوتا ہے، مگر کلام سے زیادہ ان کی آواز اپھی ہے۔ وہ اگر تہاری اجی جان کی ناموزوں غزل بھی اپنی آواز میں سنا دیں تو مشاعرہ لوٹ لائیں۔

بچو! مشاعرہ لوٹنا مشکل بات نہیں اس لئے کہ مشاعروں میں داد دینے والے سب کے سب سمجھدار نہیں ہوتے۔ اگر سب سمجھدار ہو جائیں تو خوش گوئی اور

خوشگلوئی میں امتیاز ہونے لگے۔

مگر بچوں بازہرہ نگاہ صرف خوشگلو نہیں۔ خوشگو بھی ہیں۔ ان کے کلام میں بھی بچپن ہے مگر بچے کے پیر پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ ان مکتبل بہت شاندار ہے مگر جب وہ بخوبی کہنے لگیں گی تو سننے والے اس فیاضی سے داد نہ دیں گے۔

بچوں بازہرہ نگاہ ایک شریعت خاندان کی بیٹی ہیں اور شرافت ان کے ہر انداز سے برستی ہے۔ بڑی شرافت، معصومیت اور سادگی تھی اپنے میں بھی پیدا کر دے۔ اور یاد رکھو۔

ز - زہرہ نگاہ



سعادت حسن نٹو

www.taemeernews.com



سہمن

سعادت حسن منٹو

بچو! ان کو دیکھو یہ منٹو ہیں۔ منٹو پاک دا منٹو نہیں۔ سعادت حسن منٹو۔ افسانہ بگار منٹو، وہ منٹو جو مقدمہ چلواز کے لئے افسانے لکھتے ہیں۔ افسانے رسالے میں جاتا ہے اور یہ خود عدالت ہیں۔

بچو! یہا پنے وقت کے سب سے بڑے افسانہ بگار مانے جاتے ہیں۔ ان کے آرٹ نے ان کو عروج پر پہنچایا ہے مگر وہ خود پنے عروج سے گھبرا کر بار بار پستی کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا فن ان کو زندہ جاوید بنائچکا ہے مگر وہ خود کشی کی کوشش میں دن رات مصروف نظر آتے ہیں۔

بچو! ان منٹو کے دوست ان کو صبر کر چکے مگر ان کو اپنے دشمن دوست نظر آنے لگے ہیں۔ اس الٹی سمجھ کے علاج کے لئے دماغی اسپتال میں بھی رہ چکے ہیں مگر کوئی افق نہیں ہوا۔

بچو! اپنے نجھے نجھے ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعا کرو۔

بیکو جو ایہ بہت اچھے آدمی تھے۔ اور اب بھی بہت اچھے آدمی ہیں۔ مگر ایک دن ایک بوتل سے انڈیل کرنے کیا پی گئے کہ پھر نہ سنبھالے۔ ناہے کہ آجیل دہی بوتل خود ان کو پی رہی ہے۔ اس بوتل کی موت کو وہ اپنی زندگی بنائے ہوئے ہیں۔ خدا ان پر حکم کرے۔

بیکو جو خبردار اس قسم کی بوتل کے پاس نہ جانا۔ درست منٹوں میں جاؤ گے۔ افسانہ نگار منٹو نہیں بلکہ اپنی زندگی پر بار منٹو۔

آؤ بیکو! ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمارے افسانہ نگار منٹو کو پتلے منہ کی اس بوتل سے نکال دے جس میں وہ کھنس گیا ہے۔

بیکو! منٹو کے لئے دعا کرنے کو یاد رکھو۔

س. سعادت حسن منٹو

پ

شوكٰت شناڻي

www.taemeernews.com



شیں

شوکت تھا نوی

بچو! دیکھنا ذرا یہ شوکت تھا نوی ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ یہ مزاح نگار ہیں۔ اگر تم کو ان کے اس خیال پسندی آگئی تو بھی یہ اس کو اپنی مزاح نگاری کی کرامت سمجھیں گے۔

بچو! یہ شاعر بھی ہیں جب سنجیدہ کلام روز کے پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو ہنسی آتی ہے۔ جب مزاجیہ کلام سناتے ہیں تو لوگ عبرت پڑتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کو پکڑ لینا چاہیئے۔

بچو! خدا کے لئے ان کو سمجھاؤ کہ یہ ترجمہ سے کلام سنانا چھوڑ دیں اور اگر شاعری ہی ترک کر دیں تو تم سب مل کر جشنِ نجات مناو۔ یہ بہت بدآدات ہیں مگر گاگش سنانے سے باز نہیں آتے۔ دعا کرو ان کی آواز خود ان کے کان میں بھی پہنچ جایا کرے بلکہ اگر صرف ان ہی کے کان میں پہنچا کرے تو بہت اچی ہے بچو! ان کے مزاجیہ مرضیاں میں پچھر اگر تم کو ہنسی نہ آئے تو اپنے کو سمجھو دار

سبھننا اور اگر جنہی آجائے تو کسی فقیر سے اپنے لئے تعزیز کھونے کی کوشش
کرنا۔

بچو! تم کو معلوم نہیں۔ بات یہ ہے کہ شوکت تھانوی چونکہ با قاعدہ پڑھ
ن سکے لہذا انکھنا مشروع کر دیا۔ مگر تم انکھنکی کوشش نہ کرنا صرف پڑھنے کی کوشش
کئے جاؤ تاکہ شوکت تھانوی بننے سے خدا تم کو محفوظار کھے۔

بچو! بعض لوگ شوکت تھانوی کو مزاح نگار کہتے ہیں اور بعض لوگ
طنز نگار اور اس قسم کے لوگ بہت کم ہیں جو طنز اور مزاح کا فرق سمجھ سکیں۔
فرق سمجھتے ہوئے تو نہ طنز نگار کہتے نہ مزاح نگار۔ خود ان کی ذات کو طنز اور مزاح
کہتے... نگار کی تہمت نہ لگاتے۔

بچو! ان کو دیدیجئے عبرت نگاہ سے دیکھو اور یاد رکھو۔

ش۔ شوکت تھانوی

www.taemeernews.com



صلوات الدين احمد

www.taemeernews.com



صواد

صلاح الدین احمد

پچھا بایہ صلاح الدین احمد ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد۔

نہم اگر ان کو نہیں جانتے تو یہ تھا راقصر ہے۔ ایسے شریف آدمی کو ضرور
جاننا چاہیئے۔ اگر تم اپھے پچھے ہو تو اپھے آدمیوں سے ضرور ملوا درا پھے آدمیوں
میں مولانا صلاح الدین احمد کا نام صرف فرست آنا چاہیئے۔

پچھا بایہ مولانا صلاح الدین احمد ایک قسم کے اشرف المخلوقات ہیں۔ آدمی
ذوب ہی ہوتے ہیں، مگر اتنی آدمیت بہت کم آدمیوں میں ہوتی ہے جیتنا مولانا
صلاح الدین میں ہے۔ وہ بہت ملنسار، مرنجاں، مرنجخ اور بشاش آدمی ہیں۔ جن
آدمیوں کے حالات میں بنشاشت ہوتی ہے، وہ اگر بشاش میں تو یہ ان کا کمال
نہیں بلکہ حالات کی غلطی ہوتی ہے۔ مگر مولانا صلاح الدین احمد کے حالات میں
اتھی بنشاشت نہیں جلتی ان کی ذات میں ہے۔ وہ انگریز مصنفین کی طرح کام
اور سر کے بال لئے اپنی لگھنی موکھپوں اور دہرے جسم کے ساتھ اس قدر سادہ اور

معصوم باتیں کرتے ہیں کہ ان کا مخاطب اپنے کو ان کا محبوب سمجھنے لگتا ہے۔ اور اسی بات نے ان کو سب کا محبوب بنادیا ہے۔

ان کو بیوی اور نکھوں سے جو محبت ہونا چاہیئے، وہ بھی اردو زبان سے ہے۔ اردو زبان کے متعلق جس وقت کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کسی محبوبہ کا ذکر مرنے لئے کر کر رہے ہیں۔ ان کے لب والجہ کی تھیں ادرا نکھوں کا معصوم سر درستنے والوں پر بھی وہ عشق طاری کر دیتا ہے جس میں وہ خود بتلا ہیں، مولانا صلاح الدین احمد رسالۃ ادبی دنیا کے اپڈیٹر ہے۔ اگر ادبی دنیا کے اپڈیٹر نبھی ہوتے تو ادبی دنیا ان سے بیگانہ نہ رہتی۔

ایسے معصوم بزرگ، ایسے ہنس کھنڈ بخرا اور ایسے مستند طالب علم اب کہاں ملتے ہیں۔ یہ مل گئے ہیں تو بچوں کی قدر کردا اور یاد کردا ان کا نام۔

ص - صلاح الدین احمد

ضواد

ضیا جا لندھری

بچو! یہ دہی ضیا جا لندھری ہیں جن کو ترقی پسند طبقہ ترقی پسند سمجھتا ہے۔ عورتیں ان کو کنوا را سمجھتی ہیں۔ دوست اُن کی دوستی میں متلا ہیں اور یہ خود کسی مرض میں متلا نہیں خواہ دعشق ہی کیوں نہ ہو۔

پہلے روپ میں تھے، پھر زدک خانے میں چلے گئے۔ آخری اطلاع یہ تھی کہ فوج میں ہیں۔ الشرجانی اس بھنکے رہی کی منزل کیا ہے اور اس کو منزل کی تلاش ہے بھی یا نہیں۔ پچھلے دنوں بہت سی منزلیں خود ان کا پتہ پوچھ رہی تھیں جب تما یا گیا کہ ڈاکخانے میں ہیں تو ماوس ہو کر بولیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ لیٹر افس میں یہ بے نشان پہنچ گیا۔ اندیشہ ہے کہ اگر کچھ دن شادی نہ کی تو بے دارث مال کی حیثیت سے نیلام نہ کر دیئے جائیں۔

شعر بہت کم کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اچھا کہنا چاہتے ہیں۔ کہ کہ متأعد میں سنتے اس طرح ہیں گویا سامعین کو گالی دے کر بھل گئے کا ارادہ ہے

اصرار پر دوسری نظم یا غزل اس طرح پڑھتے ہیں گویا گالی دے کر بھاگے تو
نکھلے گر کر دے گئے۔ اور اب صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یہ مصروفان کے لئے
بھی ہو سکتا ہے۔ خ

شاعر تو یہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے !

سنا ہے کہ سینے میں ایک پر خلوصِ دل کھتے ہیں، مگر لبوں پر ہر وقت
ایسا تسم نظر آتا ہے گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ دل عام افواہ کے خلاف میرے
ہی پاس موجود ہے اور صرف تمہارے ہی لئے ہے۔ ”لے لینا جو ان ہو گر“
ایک سلس طوفان۔ ایک سدا پہاڑ تہلکہ۔ ایک مستقل ہنگامہ۔
ایسی ہی تہنی۔ ایسی ہی گفتگو اور ایسا ہی ہر انداز۔ کاش یہ کھلنڈرا کبھی بھی
ذمہ دار بھی بن جایا کرے۔
پچھو ! اس کا نام نہ بھولنا۔

خ - خیا جا الندھری

طوع

طفیل (محمد طفیل)

بچھو! وہی ہیں "نقوش" کے دھان پان ایڈیٹر محمد طفیل۔
فاضی کیوں دبلے ہے شہر کے اندیشہ سے۔ طفیل کیوں دبلے ہے ایڈیٹری
کے پیشے سے۔

بچھو! یہ وہی نازک اندام ایڈیٹر ہے جس کا رسالہ "نقوش" ہمیشہ موٹا تازہ
تم نے دیکھا ہو گا۔ عام رسالے اپنا ایک آدھ خاص نمبر کا لاکر تے ہیں۔ یہ گر طفیل
کا "نقوش" خاص طور پر کبھی عام نمبر کی صورت سے نہیں نکلتا۔ اس کا ہر عام نمبر
خاص ہوتا ہے اور یہی طفیل کی خاص ادا اور عام بے ساختگی ہے۔

صورت دیکھئے تو زیادہ سے زیادہ خود اپنے رسالہ کی پرنٹ لائی نظر
آتے ہیں۔ مگر جی دیکھئے توجیہت ہوتی ہے کہ اس ہڈیوں کے مقناسب ڈھانچے
میں اس بلا کی صلاحیت کہاں سے آگئی۔ ہر کام میں سلیقہ اور نتیزداری نظر آتی ہے
اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ طبیعت بلا کی نفاست پسند پانی ہے۔ آپ ان سے

گفتگو کیجئے وہ اپنے دلبے منزہ پر ایک لطیف سی مسکراہٹ لئے بات سننے رہیں گے اور کریں گے دبی جوان کو کرنا ہو گا۔

ان کی ہنسی بہت چمک ہوتی ہے جو غصے کے وقت کبھی غائب نہیں ہوتی۔ کار و باری لین دین کے وقت بھی موجود رہتی ہے اور اہل معاملہ مار کھاتا ہے۔ یہی تسلیم اور یہی نیاز مندانہ انداز بڑے بڑے سکشوں سے پانی بھر والیتا ہے۔ پتواب یہ محمد طفیل جنتے ہنس کر اور سید ہے سادھے نظر آتے ہیں۔ اتنے کار و باری آدمی بھی ہیں مگر وہ کار و بار اس طرح کرتے ہیں کہ ان سے کار و بار کرنے والا سود زیاد بھول جاتا ہے، یہ اگر اخلاق نہیں تو جادو گری ہے۔ بہر حال ہے کچھ اسی قسم کی چیز جوان کے کار و بار کا گر ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک کامیاب ناشر اور ایڈٹر کے علاوہ وہ چیز بھی بنادیا ہے جسے ادیب کہتے ہیں۔ پتواب یہ خدا بننے کے علاوہ سب کچھ بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

پتواب یہ محمد طفیل دوست کی حیثیت سے بھی بہت عمدہ آدمی ہیں۔ کنٹل پر و دچار بال مغید ضرور نظر آتے ہیں مگر چہرے پر اب تک اس صاحب اولاد کے بلا کی روشنیزگی بستی ہے اور باتوں میں وہ بھولپن ہوتا ہے کہ منونت سے اس کی تھنیف کیا جو چاہیں مانگ لیں۔ پتواب کو یاد رکھو۔

نہ
ظفر علی خان

www.taemeernews.com



طبع

ظفر علی خان

پچھا ایہ دہی مولانا ظفر علی خان ہیں جن کے اخبار کا نام "زمیندار" ہے اور جس کا زمینداری سے کوئی تعلق نہیں۔

پچھا مولانا ظفر علی خان ہمارے ان بزرگوں میں سے غالباً اب اکیلے ہی رہ گئے ہیں جن کے لئے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تم کہو گے کہ ڈاکٹر عبد الحق بھی اسی قسم کے بزرگ ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ شاہنش پچھا تم نے باہل ٹھیک کہا۔ جاؤ آج کی پھٹی۔

پچھا ایہ مولانا ظفر علی خان ہماری زبان کی اخبار نویسی کے اگر باہد آدم نہیں تو بھی جدا مجدد کی حیثیت پھر درکھستے ہیں۔ جب ہمارے محسن معمر ہو جاتے ہیں تو ہم کو صرف ایک طریقہ یاد رکھتا ہیں کہ ہم ان کو "بابا" کا خطاب دے دیتے ہیں۔ جیسے قائدِ عظم کو "بابا" کے ملت "کہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر عبد الحق کو "بابا" کے اردو "کہتے ہیں۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان کو "بابا" کے صحافت "کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ صحافت

میں سے بچی ہے۔

پچھا! تم کو معلوم نہیں کہ پولانا ظفر علی خاں جتنے بڑے اخبار نویس ہیں لئے ہی بڑے لیڈر بھی رہ چکے ہیں اور شاعری میں تو ان کی حیثیت شعر کرنے کی مشین کی تھی۔ موضوہ یا مصرع طرح اس مشین میں ڈال دیجئے اور کھٹا کھٹ ایک سے ایک دھلا ہوا شعر نکلنا شروع ہو جائے گا اس مشین سے۔ وہ شاعری کو اپنے باعثیں لاتھے کا اد صحافت کو اپنے دامنے ہاتھ کا کھیل زندگی بھر سمجھتے رہے۔

بہت دنوں سے وہ ضمیمی کے ہاتھوں بقول غالب "نکے" بن کر رہ گئے ہیں مگر ان کا سب ڈرامہ کام ہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی سے ہم کو اس طرح کا اطمینان حاصل ہے گا جیسے کسی طالب علم میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ الماری میں ڈکشنری رکھی ہوئی ہے۔

پچھا! ان کا نام یاد رکھو۔

ظفر علی خاں

ع
عبدالحق

www.taemeernews.com



عین

عبد الحق

پچھو جو ان کو پہچاننے کی کوشش کر دے۔ اگر تم ان کو بھی نہ پہچانے تو اردو کے حروف کیسے پہچانو گے جو یہ بائکے اردو مولانا عبد الحق ہیں۔ یہ ڈاکٹر بھی ہیں، مگر علاج صرف اردو کا کرتے ہیں۔

پچھا بائیکے اردو اس لئے نہیں ہیں کہ اردو ان کی بیٹی ہے۔ البتہ جب یتیم ہو گئی تو مولیٰ عبد الحق نے اردو کو گود لے لیا۔ کہاں صرف بائیکے اردو مگر سچ پوچھو تو اردو کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا اور اردو کے لئے اپنی زندگی تجھ دی۔ اب ان بے چارے کا سوائے اردو کے اور کوئی نہیں ہے، اولاد ہے تو اردو، دوست ہے تو اردو، منس ہے تو اردو، غلگار ہے تو اردو، یہ اردو ہی کے ختم ہیں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اگر آج اردو کو پاکستان اپنا لے تو آج ہی یہ بڑھا جوان ہو سکتا ہے۔

پچھا بے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اردو ان کے سہا سے زندہ ہے یا یہ اردو کے

ہلکے زندہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ یہ صرف اردو بولتے ہیں اور صرف اردو سنا چاہئے ہیں۔ اس ڈر سے کہ کہیں کسی اور زبان کی بھنگ کان میں نہ پڑ جائے اپنے کان بند رکھتے ہیں۔
بچو! ان کی زندگی کے لئے دعا کرو۔ اس لئے کہ ان کی زندگی اردو زندگی ہے۔ یاد رکھو۔

ع - عبد الحق

غدیں

غلام عباس

افسانہ نگار غلام عباس جن کو لوگ آفندی کے نام سے بھی جانتے ہیں پچھا بیہ ان چند افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں جو خاقانی کو کہانی بناتا کہ لذت گئے ہیں۔ مگر پچھا بتھم تو خیر پتھے ہو۔ یہ بات تو ہم "والدین" قسم کے لوگوں کی تجوید میں بھی نہ آئی۔ ایسا بیڈھنگا آدمی جو سوائے کھرپہ ہونے کے اور پھر نظر نہیں آتا۔ ایسے لطیف احساسات اور ان احساسات کا ایسا نازک اسلوب ادا کہاں سے ملتا تاہے۔

پچھا بتھم غلام عباس سے ملنے کی کبھی کوشش نہ کرنا دردھلنا اٹھا کر تم کو یقین دلائیں گے کہ میں غلام عباس ہوں اور تم کو عبرت ہو گی کہ ذرا سی بات کیلئے یہ شخص جھوٹا حلف اٹھا رہا ہے، مگر جب تم کو مبتکل ان کے غلام عباس ہونے پر یقین آ جائے گا تو تم ان کو ایک نہایت پُر خلوص دوست، ایک ایماندار آدمی اور ایک سچا ادیب پاڑے گے۔

بچو! یہ غلام عباس بچوں کی طرح مخصوص نظر آتے ہیں۔ ان کے فلم میں جو
ناشر ہے وہ خدا نے ان کے چہرے میں نہیں دی ہے جب وہ اپاںک لے چھنا
شروع کر دیتے ہیں تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ ہنخواڑا ایک دم فلم کیسے بن گیا۔
مگر وہ اپنی صورت سے زیادہ اپنی تحریر دل میں نظر آتے ہیں۔ اسی لئے تم کو یہ
برزرگانہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ان کے افسانوں میں ملو۔

بچو! تم ان غلام عباس کے اگر داعی دوست بن جاؤ تو سچ مجھ کے غلام بن کر
رو جائیں گے۔ خلوص کی شدت میں اکثر بے پایے چیران رہ جاتے ہیں کہ کیا
کریں اور کیا نہ کریں۔ اور بچہزیگی کے ساتھ ایسی سہی منہستے ہیں جیسے کسی نے کیا
کھا کر قہقہہ بند کیا ہو۔

بچو! جب تم عاقل بالغ ہو جاؤ گے اس وقت تم کو اختیار ہے کہ غلام عباس
سے ملوپا نہ ملو، فی الحال تم ان کا نام یاد رکھو۔

غ - غلام عباس



فرقہ کو رکھ لپی

www.taemeernews.com



ف

فرق کو روکھپوری

بچو! ایسی ہی فرقاں گو روکھپوری جن کی غزلیں پاد بزداں قد اپسندیدہ ہونے کے اب تک قوالوں سے بچی ہوئی ہیں۔

بچو! فرقاں گو روکھپوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دو ان چند غزل گو شاعروں میں سے ایک ہیں جن کی قدامت پستی کی ترقی اپسند نہ جانے کیوں ترقی اپسندی سمجھتے ہیں حالانکہ فرقاں نہ قدامت اپسند ہیں نہ ترقی اپسند بلکہ اگر کچھ ہیں تو خود اپسند اور خود پست گرے بچو! خود پست اور خود فریب میں ہی تو فرق ہوتا ہے۔

بچو! فرقاں گو روکھپوری پرد فیسر ہیں۔ مگر مشاعروں میں جس انداز سے اپنا کلام بناتے ہیں شہر ہی ہوتا ہے کہ یہ کسی کانج کے پرد فیسر نہیں بلکہ شعبدہ باز پرد فیسر ہے اور ابھی اپنے شتر کے دوسرا ہے مصروعے سے کبوتر نکال کر اڑا دیں گے۔ گول گول آنکھیں اسی انداز سے گھما پھر کر اپنے ہر صریحے کے ہر لفظاً کو باقاعدہ جنمائیں کر کے جس قوت وہ پڑھتے ہیں سنتے والوں کو درپرداہ ایک صدمہ سا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا شعر ان پر

کیوں نازل ہو گیا تھا۔ ان کے اشعار میں نغمہ سے زیادہ قص ہوتا ہے، مگر بشرطی ہے کہ وہ خود نغمہ نہ فرمائیں۔

بچو! فراق گورکھپوری ٹبرے خوفناک قسم کے صاف گوآدمی ہیں۔ ایک رکھائی سے بعض سمجھی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ تکلف ایسے منہ پھٹ آدمی سے خود پناہ مانگتا ہے، مگر ان کی باتیں سن کر یہ اعتقاد ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کی کسی بات میں کسی غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔
 بچو! فراق گورکھپوری کے اشعار میں تم کو جتنی اردو ملے گی اُنسی ہی کہ ان سے مل کر ان کی گفتگو میں تم پاؤ گے۔ اپنے لب والہجہ کے اعتبار سے وہ ہر وقت گورکھپور میں رہتے ہیں اور جب گلاس اور بوتل سلمانے آجائے پھر تو وہ کہیں بھی نہیں رہتے۔
 سنا ہے کچھ دنوں سے صحت مسلسل خراب ہے۔ لہذا دعا کرو ان کے لئے اور یاد رکھو ان کا نام

ف - فراق گورکھپوری

و

فَاسْمِيْنَبِرْ

www.taemeernews.com



فاف

فتا سمی

دیکھو بچو! یہ احمد ندیم قاسمی ہیں۔

شاعر، افسانہ نگار، ادیب، صحافی، سب پچھے مگر سب سے بڑھ کر ایک اچھے آدمی۔

بچو! اچھے شاعر، اچھے افسانہ نگار، اچھے ادیب اور اچھے صحافی تو پھر ہی
مل جاتے ہیں مگر اچھا آدمی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش عام انسانوں
کی پیدائش سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش کے لئے نرگس کو نہ رہا
سال اپنی بے نوری پر دنا پڑتا ہے۔ پھر اسی آدمی پیدا ہوتا ہے۔

بچو! تم احمد ندیم قاسمی کی قدر کرو۔ اگر تم نے اتنے اچھے آدمی کی قدر نہ کی تو
اچھا آدمی پیدا ہونا بالکل بند ہو جائے گا۔ خواہ نرگس اپنی بے نوری پر لاکھوں سال
روقی رہے۔ بچو! ان احمد ندیم قاسمی کا کوئی دشمن اگر تم دریافت کر سکو تو اس کی
تصویر اخباروں میں چھپوادینا تاکہ یہ دعوئے باطل ہو سکے کہ احمد ندیم قاسمی نے خواہ

دوست کم بنائے ہوں مگر دشمن کوئی نہیں بنایا۔

بچو! احمد ندیم قاسمی کی شرافت نفس کا یہ عالم ہے کہ ان کا خطاب ار خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے اور پھر یہ خود ہی اس کیسے ہوئے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں کہ لیتے ہیں۔
بچو! اگر تم سرسری نظر سے احمد ندیم قاسمی سے ملے تو ان کے متعلق عجیب غریب رائے قائم کر دے گے۔ مثلاً نام ڈے اور درشن تھوڑے بہت سمجھنے ہے کہ تم ان کو دیکھ لیتے تو یہ زیرِ عرض کا یہ صرع پڑھنے لگو کہ حکم سخن ہاشمے میری غیرت دار۔ اور یہ داقعہ بھی ہے کہ وہ جتنے بڑے سخن گو اور سخن سخی ہیں اتنے بھی داقعہ ہوئے ہیں غیرت داری کا عالم دیکھنا ہوتا عیناً کس کے پیچے مسکانے والی آنکھیں دیکھو لجو دو کنواری بہنیں علوم ہوتی ہیں۔
اہجرہ مسرور اور خدیجہ مسٹر کے یہ چیزیتے بھیا ہیں اور خوش نصیب ہیں باجوہ اور خدیجہ کے ان کو ایسا چاہئے والا بھائی پاکستان آگر الٹ ہو سکا۔

احمد ندیم قاسمی پر حب بہت پیار کرتا ہے تو یہ غصہ بھی آنے لگتا ہے کہ یہ سیاست میں کیوں پڑے گے۔ وہ خالص شاعر اور خالص ادیب پیدا ہوئے تھے مگر برہمن دار دمند دل کا جس نے ان کو سیاسی آدمی بھی بنایا۔ اور شاعر کو چھوڑ کر وہ جیل بھی جلنے لگے۔
بچو! سیاست چاہتی ہے کہ ادیب ایک عظیم شخصیت چھین لے، مگر تم دعا کر د کہ احمد ندیم قاسمی صرف ادیب اور صرف شاعر ہے جائیں۔ ان کا نام یاد رکھو۔

کشن چندر

www.taemeernews.com



کاف

کرشن چندر

پھوایہ کرشن چندر ہیں۔ تمہنس کیوں ہے ہو۔ دائی یہ کرشن چندر ہیں تھم کو
ہنسی اس بات پر کافی ہو گی کہ جس کرشن چندر کا نام اتنا ہو، وہ بھلا صرف اتنا سا
کیسے ہو سکتا ہے۔ تم نے کرشن چندر کا تصور بہت بھاری بھر کم قائم کیا ہوا گا۔ مگر وہ تو
واجہی سے آدمی نکلے۔ وجہ یہ کہ تھتے زیادہ ہیں، درزش کم کرتے ہیں۔

پھوایہ الگ تم کو نہیں معلوم توجیہت ہے کہ کرشن چندر بہت بڑے افسانہ بھوار ہیں
ترقی پسندان کو ترقی پسند کھتھتے ہیں، مگر جو ترقی پسند نہیں، وہ بھی پسند کرتے ہیں اور جیزاں
ہوتے کہ ترقی پسندان کو پسند کرتے ہیں جب کہ ان کے افسانوں میں جنیات کی مقدار
اتنی بھی ہوتی ہے جیسی دنیا کے دوسرے مسائل کی صرف جنیات ہی جنیات نہیں۔

پھوایہ کرشن چندر بھولی بھالی شکل کے نہایت سادہ آدمی نظر آتے ہیں، مگر
اپنے افسانوں میں بڑے پرکار بھی بن جلتے ہیں۔ ان کے متین چہرے پر دشمنات
سے بھری ہوئی آنکھیں ہر وقت جزئیات کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ وہ پیش پا اقتادہ

سائل سے خاموشی کے ساتھ گز نہیں جلتے بلکہ ان میں بھی اپنے لئے افانہ ڈھونڈتے ہیں اور صرف ڈھونڈتے نہیں بلکہ پاتے بھی ہیں۔

بچوں یہ کرشن چند خطرناک حد تک بذله سنج بھی ہیں مگر ساتھ ساتھ گھرے آدمی بھی۔ وہ چکرے چکے جانے کیا سوچتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کچھ چیزوں سے ملتی جلتی ہے جو چکرے چکے جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ مصروفیت بے حد مگر نہایت خاموش قسم کی مصروفیت جب ریڈیو میں سے اس وقت بھی نہایت خاموش کارکن ہے جب ریڈیو سے فلم میں گھٹے اس وقت بھی چپ چاپ اور اس کے بعد بھی چپ۔ ان کی کتابیں، ان کے افسانے اور ان کی تحریریں شور مچاتی ہیں، ہنگامے سے برپا کرتی ہیں مگر وہ اس طرح معصوم بن رہتے ہیں جیسے ان کا اس شور اس ہنگامے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بچوں یہ نہ سمجھنا کہ وہ گھنٹے ہیں۔ وہ نہ گھنٹے ہیں نہ چھپوں تھیکوں والے آدمی۔ البتہ ان کو اپنے افسانوں کی اولیٰ میں ہٹنے کا کچھ شوق رہتا ہے۔ تو بھائی اپنا اپنا شوق ہے یہ۔ بچوں یہ کرشن چند رسمی ترقی پسندوں کی جامع مسجد کے امام رہ چکے ہیں۔ مگر چونکہ اذان دینے سے گھبراتے ہیں، لہذا اب صرف تجاویں کر رہ گئے ہیں تھم ان کا نام یاد رکھو۔

ک - کرشن چند

لام

ل - الحمد

پچھا بیہ تھلے کے اباجان کے عہد کے افسانہ تکرار ہیں۔

اگرے کی تین چیزوں میں شہر ہیں۔ - تاج محل۔ دال موٹھا اور ل۔ احمد۔ تاج محل اور دال موٹھکی شہرت بہتر تو فاقہم ہے مگرل۔ احمد نے مشہور ہونے کا مشغیر مدت سے ترک کر دیا ہے۔ ان کے افلانے اب تک بعض تاریخی کتابوں میں پائے جلتے ہیں جن کو محلہ آثار قدیمیہ نہایت احتیاط سے محفوظ کر رہا ہے۔

پچھا بیل۔ احمد کے افسانے اگر کہیں مل سکیں تو ضرور پڑھ لو تاکہ تم کو جھی صدہ ہو سکے کہ اتنے اچھے لکھنے والے فن لکھنا کیوں بند کر دیا۔ یہ ہماسے افسانوی ادب میں اپنی راہ اگ نکال کر ہم کو اس راہ پر بھسلتا ہوا پھر ٹکٹے اور اب اگے میں بیٹھے خود تو تجارت کر رہے ہیں اور ہماسے بھسلنے کا تماشہ خاموشی سے دیکھ دیکھو کر ہنس رہے ہیں۔

پچھا بیل۔ احمد ہمیشہ سے ایسے سمجھیدہ بزرگ نہ تھے۔ بڑے ہنگامے

کی زندگی سر کرچکے ہیں۔ ٹری دوافی تھی ان کی جوانی بھی پڑے منچے تھے اپنے وقت کے بزرگ بھی مگر اب تو جیسے تھک ہاڑ کر رہ گئے ہوں بسنا تھا کہ ادیب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا مگر اے۔ احمد فضاح بنے کیوں نشان لے لی ہے۔ بہر حال تم ان کا نام ماید رکھو۔

ل - ل - احمد

میکم

مجنوں کو رکھپوری

بچو! مجنوں گو رکھپوری کو دیکھو تو ان کو اپنادست اور سمجھی سمجھ کر یہ نہ کہنا کہ آدمیلیں کھیلیں۔ ان کا قد چھوٹا ہے مگر یہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ان سے مل کر تم کو یہ کہا دت یاد آتا چاہیے کہ ”نام بڑے اور رش ناخوش“ پھر جب تھے ہو کر ان کے افسانے پڑھو گے تو تم کو ضرر و تعجب ہو گا کہ اتنا سا آدمی کتنا بڑا انسان تھا۔

بچو! مجنوں گو رکھپوری اردو کے ان چند انشا پر دازدیں میں سے ہیں جن کو اردو کی تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی۔ یہ ایک قابل بآپ کے قابیں ہیں ہیں۔ خدا کے قابل بیٹوں کے بآپ بھی کہلاتیں۔

بچو! مجنوں گو رکھپوری بڑے ہیں لکھ مگر خدا ناک طور پر سچے آدمی ہیں۔ وہ خلافاً بھی بھوٹ نہیں بولتے اور بعض اوقات سچ بولتے وقت ہمایت کھرے نظر آتے ہیں اور بڑے سے بڑے دوست کا دل رکھنے کے لئے بھی بھوٹ نہیں بولتے۔

مثلاً یہ عمومی سماجیت ہے کہ کسی کا شعر سن کر تعریف کر دی جائے۔ مگر مجنوں گورکھپوری کھٹپا شعر کی کبھی تعریف نہیں کرتے۔ لوگ ان کی اس سچائی کو ان کا غرور سمجھتے ہیں۔ مگر وہ جھوٹ بولنے سے مغفرہ ہونا پسند کرتے ہیں۔
بچو! تم ان کے افسانے صدر پڑھو اور ان کا نام یاد رکھو۔

م۔ مجنوں گورکھپوری

ن

ن مرآشند

www.taemeernews.com



لوں

ن. حم. راشد

وہ بھیو بچو بایہ ن. حم. راشد ہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر یہ بہت اچھی غزلیں لکھتے تھے، مگر جب ان کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں اور نتا عزیزی اچھی غزلیں لکھنے لکھنے تو باقی شاعر ڈال کو بہکانے کے لئے کچھ آزاد نظمیں بھی کہہ دالیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب آزاد نظمیں لکھنے لگے اور جب لوگ آزاد نظمیں کہنے لگے تو یہ سچرا طیناں سے غزل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب کوئی آزاد نظم نہیں کہتا۔ اس لئے کہ آزاد نظم کہنے والے خود آزاد ہو چکے ہیں اور آزادی ملنے کے بعد سے اگر غزل نہ بھی کہہ سکیں تو قومی ترانے کہنے رہتے ہیں۔

بچو! تم اگر کہیں آزاد نظم دیکھنا تو پڑھنا نہیں دردہ ہنسی آجائے گی خیر ہتنا تو کوئی برسی بات نہیں ہے مگر اس نظم کو یاد کرنے کی صرف اس وقت کو مشتمل کرنا جب پہلوئے یاد کرنے کو جو چاہے۔ اور ایک بات گرہ میں باندھ لو کہ اس نظم کو لگانے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ اس لئے کو علم مویشقی میں اب تک کوئی راگ ایسا ایجاد

نہیں ہوا ہے جس میں آزاد نظم گائی جا سکے۔ یہ نظم کسی ایسے ستار پر بجا فی بھی نہیں جاسکتی جس کے تمام تاریخ صحیح و مسلم ہوں۔

پچھوایا۔ م. راشد لپٹے نام کو دستخط اس لئے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کا نام نذر محمد ہے اور یہ نام ان کو پسند نہیں۔ اس لئے سعادت مندی کی وجہ سے والدین کا رکھا ہوا نام تو نہیں بدلتے البتہ انگریزی طریقہ پر اس ناپسندیدہ نام کے حروف لئے ہیں تاکہ چھوٹے نام کے بڑے درشن ہیں۔ فیش کافیش اور نام کا نام۔

پچھا۔ م. راشد بہت عمدہ آدمی ہیں اور چونکہ جہا ندیدہ ہیں اس لئے ان سے بات کر کے معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والا سیاحت کر رہا ہے۔ پہلے ریڈیو میں تھے پھر فوج میں گئے۔ پھر ریڈیو میں آئے اور اب امریکہ میں ہیں۔ خدا کرے اس نئی دنیا سے شاعری کی کوئی نئی چیز نہیں کرائیں تاکہ کچھ دن اس کے بھی چرچے رہیں۔

پچھا۔ ان۔ م. راشد کا کلام اگر پڑھنا ہے تو ان کی غزلیں ڈھونڈو۔ نئی شاعری میں یہ پرانا شاعر کم کو مشکل سے ملے گا اور ان کا کلام بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم صرف ان کا نام یاد رکھو۔

ت۔ ن۔ م. راشد

www.taemeernews.com

ف
وقا عظيم

www.taemeernews.com



واؤ

وقارعظیم

بچو بایہ وقارعظیم ہیں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ تم کو پڑھائیں گے جلدی پڑھو تاکہ اسکول سے کالج میں پہنچوا اور وقارعظیم تم کو پڑھائیں۔ سناء ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا لکھنے بھی لگتا ہے۔

بچو بایہ وقارعظیم ہیں جو پہلے رسالہ "نقوش" کے ایڈیٹر تھے اور اب بھی رسالہ "نقوش" سے ان کو دیسی ہی محبت ہے۔ محبت تو خیران کی عادت بن گئی ہے۔ سب ہی سے محبت کر لیتے ہیں۔ اور یہ محبت اس لئے چڑپکرملیتی ہے کہ ادا، دشمنی کرنا اور دشمن بنانا ان کو آتا ہی نہیں۔ کالج میں پروفیسر ہیں مگر ادائیں طابع لانہ ہیں۔ زندگی بھر میں صرف دو شوق پیدا ہوئے پڑھنے کا شوق اور پھر پڑھا ہوا لگلنے کے لئے لکھنے کا شوق۔

دھان پان جسم بھی کچھ خوب لکھ نہا پایا ہے۔ ہر وقت ہنسنے والی آنکھیں اور ان آنکھوں میں پہنچنے خاطب کے لئے محبت کی چمک، ہوا کا تیز جھونکا آ جائے تو

یہ نقاد اڑ جائے، مگر کسی ادبی بحث میں حجمہ لے تو معلوم ہو کہ یہ وقار عظیم نہیں بلکہ ایک کوہ وقار ہے جو اپنی جگہ سُس سے مس نہیں ہوتا۔ بحث بھی مکرا مسکرا کر فرمائیں گے۔ بد مقابل معلوم نہیں دلائل سے پسپا ہوتا ہے یا اس تبتہ سے بہر حال پسپا ہوتا ضرور ہے اور اس کی پسپائی یا اپنی فتح کا بھی آپ کی صحت پر کوئی نمایاں اثر نہیں ہوتا۔ کسی پر تنقید کریں گے تو وہ اس طرح خوش ہو گا گو یا یہ نقاد اس کو داد دے رہا ہے۔ بیدا دگر ہو تو ایسا ہے۔

وقار عظیم لقیناً خوبصورت آدمی نہیں ہیں مگر ان میں حسن لقینی طور پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ حسن بیاں نہ ہو سکے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بحثیت بھجوئی ان میں بلا کی دلکشی ہے۔ اب خواہ یہ دلکشی ان کی اس شرافت کی ہو جو ہر وقت ان پر طاری رہتی ہے یا اس انکساری کی جس کو باقی رکھنے کیلئے غالباً دو دنستہ اپنی صحت خراب رکھتے ہیں۔

چجو ان کا نام نہ بھولنا۔

۶ - وقار عظیم

www.taemeernews.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



www.taemeernews.com



ڪھٽ

ہاجرہ مسروور

بچو! یہ ہاجرہ مسروور ہیں۔ وہی ہاجرہ مسروور جن کا ذکر خدیجہ سنتور کے میں
میں آپکا ہے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی افسانہ نگار خاتون ہیں اور ان چند
خواتین میں سے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے غور دلکش کے مرضی مرد ہر کام مچھوڑ کر صرف
اس بات پر غور کیا کرتے ہیں کہ اگر جواب انتیاز علی عصمت حق تعالیٰ، ہاجرہ مسروور،
قرۃ العین اور خدیجہ سنتور قسم کی عورتیں برابر پیدا ہوتی رہیں تو ہم ناقص العقل کس کو
کہا کریں گے۔ بچو! ان مفکریں کو اندازی شہی ہی ہے کہ کہیں یہ خود ناقص العقل بن کر نہ رہ جائیں۔
بچو! یہ اندازی شہ غلط بھی نہیں۔ تم ذرا ہاجرہ مسروور کے افسانے نے ہر کو دیکھیو۔
اور پھر ویسا ہی افسانہ لکھنے کی کوشش کر دو تم کو اندازہ ہو گا کہ تم تیزی سے
ناقص العقل بن سے ہے ہو۔

بچو! یہ میٹھی میٹھی زبان میں ایسے افسانے لکھتی ہیں کہ ان کی گہرائیوں
میں جانے سے پہلے تم کو اپنی زبان اردو سے سچ جج کا عشق ہو جائے گا۔ بعض

ادقاتِ تمر کو محسوس ہو گا کہ تم پا جرہ مسروک کا افشاء نہیں پڑھتے بلکہ ان سے باقی کرنے ہو
”اللہ کرے یہ نخوس سمجھیدگی اڑ جائے دنیا سے۔ میں نے کلب کے
یہ دعا مانگی“

یہ اڑ جائے“ اور یہ کلب کرے۔ بھئی اللہ ترم سمجھتے کیوں نہیں۔
بچوں اپنی خودہ زبان ہے جو اس طرح بھی جاتی ہے کہ پڑھنے والے تحریر کو تقریر
سمجھنے لگیں اور پھر تشبیہیں ایسی کہ :-

”واچہ کا چقند رجیا منہ کھاری شلغم میں تبدیل ہو گیا۔“

اگر تمر نے چقند اور شلغم دونوں ترکاریاں کھائی ہیں تو سبحان اللہ اور اگر نہیں
کھائی ہیں صرف دیکھی ہیں تو بھی تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ پا جرہ مسروک نے کتنے
بڑے سمندر کو ان دونوں کاریوں میں بند کر دیا ہے۔

بچوں پا جرہ مسروک افشاء نگاری نہیں ہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس پر طرہ ان کی
زبانِ دافی۔ بلکہ زبانِ دافی بھی نہیں، اہل زبان ہونا۔ اہل زبان کی زبان ہیں
سماعاں اور رس ہوتا ہے اور زبانِ دافی کبھی بھی زبان درازی میں کر جاتا ہے
جو پا جرہ مسروک نہیں کرتیں۔

بچوں پا جرہ مسروک کو اگر تمر نے بھلا کیا تو تمہارا چقند رجیا منہ کھاری شلغم
بن جائے گا۔ لہذا یاد کرو۔

بچے

یوسف حسن

بچو! دعا کرو کہ خدا حکیم یوسف حسن کی عمر میں برکت فرے۔ یہ اپنی زندگی میں ایسے خانہ نشین ہو گئے ہیں کہ تم میں سے بہت سے بچے ان کو جلتے بھی نہ ہوں گے۔

بچو! اپنے ابا جان سے پوچھو کہ ان کے زملے کا سب سے مشہور اور ہر دلخراز سالہ کون ساتھا۔ تو وہ جواب دیں گے "نیرنگِ خیال" اور یہ حکیم یوسف حسن اسی "نیرنگِ خیال" کے ایڈیٹر ہیں۔ مگر نیرنگِ خیال اور وہ دونوں بڑھے ہو گئے۔ درستہ بھی وہ "نیرنگِ خیال" تھا جس نے ایک تہلکہ مچار کھا تھا۔ جس کے سالانوں اور خاص نمبروں کی ایک دھوم تھی۔

بچو! یہ حکیم یوسف حسن حکیم بے شک ہیں مگر ان کو بعض شناسی سے زیادہ ادب شناسی پر ناز ہے اور یہ ناز غلط بھی نہیں ہے۔ ان کے اثردار رسوم ختنے "نیرنگِ خیال" میں وقت کے تمام بڑے بڑے ادبیوں کو لے کر زیਆختا جب تک

یہ شیرازہ فائمہ رہانیزگ خیال کا جواب نہ تھا۔ جب یہ شیرازہ منتشر ہوا تو نیزگ خیال
خواب و خیال بن کر دیا گیا۔

پسچاہ دعا کر کہ حکیم یوسف علی پھر انگڑائی کے کراچیں اور اپنی صلاحیتوں
سے نیزگ خیال کو پھر لپٹے آزمودہ نسخے کی طرح کی پیش کریں تاکہ لوگ
یاد کر سکیں۔

ی) - یوسف حسن

www.taemeernews.com

پستہ
لیکن

www.taemeernews.com



بے

یاس بگانہ چنگیزی

چھوٹی "می" سے نہیں بلکہ بڑی "ے" سے یاس، چھوٹی "می" یا یاس کے متعلق کہتی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ یہ غالب کو چھاپنا کر چھوڑنے والے یاس عظیم آبادی ہیں۔

بیجو! ہی دہ مرزا یاس بگانہ ہیں جو اپنے کو مرزا یاس بگانہ چنگیزی علیہ السلام لکھتے ہیں خیریت گذری کے شاعر تھے، صرف غالب اور عزیز سے انکار کیا ہے اور اپنے کو علیہ السلام کہا ہے۔ شاعرنہ ہوتے تو خدا سے انکار کرتے اور خدا فی کا دخوںی کرتے۔

بیجو! مرزا یاس بہت بڑے شاعر ہیں۔ بڑے لکھے شاعر زبان اور ادب کے بہت بڑے ماہر۔ باوجود اس لہوس قابلیت کے کلام بھی ہی صن نہیں ہوتا۔ لیں ایک دراسی بات یہی ہے کہ بہت سی بلندیوں کو پست دیکھتے ہیں اور اتنے بڑے زبان دان ہونے کے باوجود دید زبانی پر اتراتے ہیں۔ ان کے لئے عام خیال ہے

کہ وہ اتنے بڑے زبان دان نہیں جتنا بڑے بد زبان ہیں۔ اگر یہی شخص زبان کا بھی اتنا ہی بیٹھا ہوتا جتنا کلام کا بیٹھا ہے تو لوگ غرت اور احترام سے بہت بڑھی جگہ دیتے۔ مگر چونکہ خود مرزا یاس نے اپنے کو اتنی بڑی جگہ پر رکھی ہے جو لوگوں کے نزدیک ان کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ لہذا ان کے قدر دان بھی ان کو ان کی اصل جگہ پر لانے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں اور اپنے قدر انوں کی ان کوششوں کو دیکھ دیکھ کر مرزا یاس مستقل طور پر چھپڑے ہو کر رکھئے ہیں۔ ایسے چھپڑے کہ ان کو سلام کرتے جی ڈرتا ہے کہ کہیں جواب میں گالی نہ فرمائیں۔

بچو! مرزا یاس دراصل ملیپیش ہیں۔ ان کو ہی مرض لاحق ہے جو نزد اور شداد کو تھا۔ وہ خداوند عالم کے حریف ہی مگر خداوندان سخن کے حریف ضرور ہیں۔ کمال فن سے انکار نہیں مگر برا ہواں احساسِ کمتری کا جس نے مرزا یاس کو احساسِ برتری کی زبردستی میں مبتلا کر کے ایک مستقل لطیفہ بنادیا ہے۔ ایک دلچسپ شخصیت پہلے لوگ ان پر غصہ کرتے تھے اب ہنسنے لگے ہیں۔

بچو! اگر تم کلام یاس سے لطف اندوں ہوتا چاہتے ہو تو اس کو یاس کا کلام سمجھ کر نہ پڑھو۔ ان کو تو صرف سین یاد کرنے کے لئے یاد رکھو۔

جیسے - یاس یگانہ چنگیزی

اے آرخیوں کی دوسری کتابیں

لذت بارے

یہ ناول تکمیل کر مختصر نے ایک ایسا پڑا غصہ جلا یا ہے جس کی روشنی میں تہذیب و معاشرت کے بیکار سے باریک نتوش اُجاگر ہو کر زنگاہوں کے نامے آجاتے ہیں۔ زبان کی چاشنی کے ساتھ ساتھ مقصدی افادیت کو بھیں فراموش نہیں ہونے دیا۔

تصویر

ان دروں خانہ معاشرت اور ایک خاص محل کی اتنی مکمل تصویر کہ اس کا ایک خط اور ایک ایک رنگ فن کاراً کمال کا ایک لازداں مرقع معلوم ہوتا ہے۔ پلاٹ کی ترتیب اور واقعات کا سلسلہ اتنا فطری ہے کہ افسوس پر حقیقت کا شہر ہوتا ہے۔

افسانہ

مرحوم دہلی کی آخری تہذیب کا وہ دلفریب اور دلگداز عکس جو بر صیر کی تاریخ کے ایک ناقابل فراموش باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1947 کے دردناک اور ہولناک واقعات نے اس تہذیب کو ملیا میٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس ناول کی قیمت دو چند ہو گئی ہے۔

نیو تاج افسُن پوست بکس ۱۹۴۷ دہلی